

...
...
...
...
...
...
...

3- ...
...
...

(1) ...
...
...

...
...
...

...
...
...
...

...



تۆزۈش سۈرۈشمۇ 2/2008 (قۇچ قۇرۇلۇش تۈزۈش) ۋە 34 نۆسۈر دۆرۈتۈش (ب) نۆسۈر
 ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش قۇرۇلۇش تۈزۈش 4 نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش تۈزۈش قۇرۇلۇش،
 دۆرۈتۈش تۈزۈش قۇرۇلۇش تۈزۈش 4 نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش تۈزۈش قۇرۇلۇش
 نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش، قۇچ قۇرۇلۇش تۈزۈش 4 نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر
 نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش، قۇچ قۇرۇلۇش تۈزۈش 4 نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر
 تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر
 نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر

نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر
 نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر
 دۆرۈتۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر
 نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر
 2/2008 (قۇچ قۇرۇلۇش تۈزۈش) نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر
 2/2008 (قۇچ قۇرۇلۇش تۈزۈش) ۋە 31 نۆسۈر دۆرۈتۈش قۇچ قۇرۇلۇش تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر
 قۇچ قۇرۇلۇش تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر
 دۆرۈتۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر
 ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر
 قۇرۇلۇش نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر
 نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر

(ب) نۆسۈر نۆسۈر 10/96 (قۇرۇلۇش نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر)
 ۋە 91 نۆسۈر دۆرۈتۈش قۇرۇلۇش تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر
 نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر
 تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر ۋە تۈزۈش قۇرۇلۇش نۆسۈر



باسمہ تعالیٰ وحی کی بنیاد پر، اس کی تفسیر کے لیے اس کے الفاظ کے معنی کو دیکھنا ضروری ہے۔

"ضرر ولا ضرار" کی تفسیر یہ ہے جو کسی شخص کی جائیداد یا چیز کو نقصان پہنچائے اور اس سے بچنے کے لیے کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے۔

تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی اور شخص کی جائیداد یا چیز میں کوئی نقصان پہنچے اور اس سے بچنے کے لیے کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے تو یہ "ضرر ولا ضرار" کی تفسیر میں سے ہے۔

اس کی تفسیر میں 4/2011 (دوسرے عدالتوں کی رائے) کے تحت 4

ویس ڈبلیو کے خلاف، اڈوکیٹ (پ) کی تفسیر کے تحت عدالتوں کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی دوسرے شخص کی جائیداد یا چیز میں کوئی نقصان پہنچے اور اس سے بچنے کے لیے کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے تو یہ "ضرر ولا ضرار" کی تفسیر میں سے ہے۔

تفسیر میں 04 کے تحت عدالتوں کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی دوسرے شخص کی جائیداد یا چیز میں کوئی نقصان پہنچے اور اس سے بچنے کے لیے کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے تو یہ "ضرر ولا ضرار" کی تفسیر میں سے ہے۔

تفسیر میں 12 کے تحت عدالتوں کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی دوسرے شخص کی جائیداد یا چیز میں کوئی نقصان پہنچے اور اس سے بچنے کے لیے کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے تو یہ "ضرر ولا ضرار" کی تفسیر میں سے ہے۔

تفسیر میں 12 کے تحت عدالتوں کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی دوسرے شخص کی جائیداد یا چیز میں کوئی نقصان پہنچے اور اس سے بچنے کے لیے کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے تو یہ "ضرر ولا ضرار" کی تفسیر میں سے ہے۔

تفسیر میں 2/2008 (ویس ڈبلیو کے خلاف) کے تحت 2 کے تحت عدالتوں کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی دوسرے شخص کی جائیداد یا چیز میں کوئی نقصان پہنچے اور اس سے بچنے کے لیے کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے تو یہ "ضرر ولا ضرار" کی تفسیر میں سے ہے۔

تفسیر میں 2/2008 (ویس ڈبلیو کے خلاف) کے تحت 2 کے تحت عدالتوں کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی دوسرے شخص کی جائیداد یا چیز میں کوئی نقصان پہنچے اور اس سے بچنے کے لیے کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے تو یہ "ضرر ولا ضرار" کی تفسیر میں سے ہے۔

تفسیر میں 2/2008 (ویس ڈبلیو کے خلاف) کے تحت 2 کے تحت عدالتوں کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی دوسرے شخص کی جائیداد یا چیز میں کوئی نقصان پہنچے اور اس سے بچنے کے لیے کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے تو یہ "ضرر ولا ضرار" کی تفسیر میں سے ہے۔

تفسیر میں 2/2008 (ویس ڈبلیو کے خلاف) کے تحت 2 کے تحت عدالتوں کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی دوسرے شخص کی جائیداد یا چیز میں کوئی نقصان پہنچے اور اس سے بچنے کے لیے کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے تو یہ "ضرر ولا ضرار" کی تفسیر میں سے ہے۔

تفسیر میں 91 کے تحت عدالتوں کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی دوسرے شخص کی جائیداد یا چیز میں کوئی نقصان پہنچے اور اس سے بچنے کے لیے کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے تو یہ "ضرر ولا ضرار" کی تفسیر میں سے ہے۔




සමස්ත ණය අයවැයීන්ගේ අයිතිවාසිකම් සහිතව, ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ
සමස්ත ණය, ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ
ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ.

* ණයකරු:

ණයකරු, ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ
ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ
ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ
US\$ 694.68 ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ
ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ

ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ
ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ
ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ
ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ

06 ණයකරුන්ගේ 1439
22 ණයකරුන්ගේ 2018

ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ

ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ ණයකරුන්ගේ

